



## سوال

(56) شیطان کی بیوی اور اولاد ہے یا نہیں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شیطان کی بیوی اور اولاد ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نصوص صحیحہ صریحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شیطان اور جنات میں سلسلہ مناکحت اور توالد موجود ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

فَیَنْقُضَنَّ الظُّرُفَ لَمْ یَطْمِئِنَّ اِنَّسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝۶۱ ... سورة الرحمن

"ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں۔ جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے۔"

زیر آیت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وفیہ دلیل علی ان الجن یطشون"

(انوار التنزیل و اسرار التاویل جزء 4 ص 179)

یعنی اس میں دلیل ہے کہ جنات جماع کرتے ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

اَفْتَحَدُوْنَهُ وَاُولَیئِنَّہِ اُولِیَاءٌ مِّنْ دُوْنِیْ وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ... ۝۵۰ ... سورة الحکف

"کیا تم اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔"



"اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ابلیس کی ذریت بھی ہے"

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ادعیہ میں سے یہ دعا ہے کہ:

«اللهم انى اعمذبك من الجنث والنجائث» (صحیح بخاری)

شارح حدیث امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح و توضیح یوں کی ہے کہ لفظ "النجث" نجیث کی جمع ہے۔ اور "النجائث" نجیث کی جمع ہے۔

"یرید ذکر ان الشیاطین وانا شتم" (تحفۃ الاحوزی: 1/44)

یعنی "مقصود اس سے شیاطین کا زور مادہ ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین میں ذکوریت اور انوشت کی صفات موجود ہیں۔ اور ان صفتوں کی موجودگی سابقہ دونوں چیزوں پر دال ہے یعنی ان میں ازدواجی تعلق اور ولادت کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ مسئلہ ہذا میں اگرچہ بعض لوگوں نے انکار اور دیگر بعض نے تردد کا اظہار کیا ہے لیکن دلائل کے اعتبار سے ترجیح اسی مسلک کو ہے۔ جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ شنائیہ مدنیہ

ج 1 ص 233

محدث فتویٰ